

پکانے کے دوران محفوظ رہنا



برتنوں کے پاس کھڑیں رہیں:
اپنے برتن یا پین کو کبھی بھی بغیر
توجہ کے مت چھوڑیں۔ اگر آپ کو باہر
جانا پڑے، تو چولہا بند کر دیں۔
ٹائمر سیٹ کریں: یہ آپ کو یاد دلائے گا
کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں۔



کاؤنٹرز کو صاف رکھیں:
چولہے کے قریب سے کپڑے، ٹاکیاں،
لکڑی یا پلاسٹک جیسی چیزوں کو دور
بٹا دیں۔



چولہے کے ارد گرد کم از کم 3 فٹ
(1 میٹر) تک جگہ سے "بچوں کو دور
رکھیں" اور انہیں ایسی جگہوں سے
بھی دور رکھیں جہاں پر گرم کھانے یا
مشروبات تیار یا تقسیم ہو رہے ہوں۔



ہوشیار رہیں: اگر آپ کو نیند آ رہی ہو یا
الکحل یا کوئی دوسری ایسی دوا
استعمال کی ہو جس سے غنودگی آ
سکتی ہو، تو کھانا پکانے کا کام نہ
کریں۔



پوری طرح فٹ کپڑے پہنیں: آگ لگنے
سے بچنے کے لیے اپنی آستینیں پیچھے
کی جانب تہہ کر لیں۔ انہیں مضبوطی
سے اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے، آرم
بینڈ استعمال کرنے پر غور کریں۔



کھانا پکانے کے آلات:
اپنے اوون یا مائیکروویو کو کبھی بھی
ذخیرہ کرنے کی جگہ کے طور پر
استعمال نہ کریں۔ اس سے آگ لگ
سکتی ہے۔

باورچی خانے میں لگنے والی آگ ہمیشہ ایک ہنگامی صورتحال ہوتی ہے۔ اگر شک ہو، تو فوراً باہر نکل
جائیں اور باہر ہی رہیں! 1-1-9 پر کال کریں۔ کسی چیز کے لیے واپس نہ آئیں۔



Mississauga Fire
& Emergency Services

کوئی سوالات ہیں؟ ہم سے رابطہ کریں:

Mississauga Fire & Emergency Services
Fire Prevention Division
905.896.5908
mississauga.ca/fire
fire.prevention@mississauga.ca